

ہدایت کی پیروی کرنے والے کامیاب (38-39) : **فَأَمَّا يَا تَبِيتُكُمْ مِّنِّي هُدًى (أَنَّى يَا تَبِيتَانِ - ض)** ”پس جب تمہیں پہنچے مجھ سے کوئی ہدایت“ سو جو چلا میری ہدایت پر تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، **وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (حَزْنٌ يَحْزَنُ حَزْنٌ)** ”اور نہ وہ غمگین ہوں گے“ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے جہنم ہے، وہ **فِيهَا خَالِدُونَ (خَلَدَ يَخْلُدُ خُلُودًا)** ”اس میں ہمیشہ رہیں گے“۔

بنی اسرائیل کو دیے گئے چند احکام (40-42) : **اے بنی اسرائیل! اَوْفُوا بَعْدِي (أَوْفَى يُؤْفَى إِيْفَاءً - أ)** ”پورا کرو میرا وعدہ“ **وَإِيَّاي فَازْهَبُونَ (زَهَبَ يَزْهَبُ زَهَبًا)** ”اور مجھ ہی سے ڈرو“ **وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي (اشْتَرَى يَشْتَرِي - خ)** ”اور عوض نہ لو میری آیات کا“ **ثَمَنًا قَلِيلًا (قَلِيلٌ كَثِيرٌ)** ”تھوڑی سی قیمت“ **وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ (لَبَسَ يَلْبَسُ لَبْسًا)** ”اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے“ **وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ (كَتَمَ يَكْتُمُ كِتْمًا)** ”اور (نہ) چھپاؤ حق کو“۔

نماز اور صبر سے مدد (43-46) : **اے بنی اسرائیل! نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو (وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ (رَكَعٌ يَرْكَعُ رُكُوعٌ)** ”اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ“ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو **وَتَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (نَسِيَ يَنْسِي نَسْيَانًا - س)** ”اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو“ یہ بڑے نقصان کی بات ہے، سنو! نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو! **وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ (كَبِيرَةٌ صَغِيرَةٌ)** ”اور یہ بڑی دشوار (بھاری) ہے“ سوائے عاجزی کرنے والوں کے لیے کیونکہ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ **مُلْقُوا رَبِّهِمْ (لَاقَى يُلَاقَى مُلَاقَاةً - ح)** ”ایسے رب سے ملنے والے ہیں“۔

آخرت میں کوئی سفارش کام نہ آئیگی (47-48) : **اے بنی اسرائیل! ذرا میری نعمت کو یاد کرو! (وَأَنبِئْهُمْ فَضْلَتَكُمْ (فَضَّلَ يُفَضِّلُ - ع)** ”اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی“ تھی تمام جہاں والوں پر، اور ڈرو ایک ایسے بھیانک دن سے جس دن **لَا تَجْزِي نَفْسٌ (جَزَى يَجْزِي جَزَاءً - ض)** ”نہ بدلے بنے گا کوئی شخص“ کسی شخص کا، **وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ (قَبِلَ يُقْبَلُ قَبُولًا)** ”اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش“۔

